

## 1670-کیا جادو بھی قتل کر دیتا ہے۔

### سوال

میں جادو کے بارہ میں معلومات چاہتا ہوں اس کے آثار کیا ہیں؟ اور کیا انسان اسے لوگوں کو قتل کرنے کے لئے استعمال کر سکتا ہے؟

### پسندیدہ جواب

بھی حال ایسا جادو بھی ہے جس سے قتل بھی ہو جاتا ہے اور علماء نے اسے قتل عمر کی صورت میں ذکر کیا ہے کہ جس نے کسی کو ایسا جادو کیا جس سے غالب قتل ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ قصاص ہے کیونکہ اس نے ایسی چیز سے قتل کیا جو کہ غالب طور پر قتل کر دیتی ہے۔

ابن قادمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفہی میں (9/230) کہا ہے کہ: چھٹی قسم یہ کہ ایسا جادو کیا جو کہ غالب قتل ہو تو اس کے ذمہ قصاص ہے کیونکہ اس نے اسے ایسی چیز سے قتل کیا جو کہ عام طور پر قتل کر دیتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ہماری سے قتل کیا جائے اور اگر وہ جادو ایسا ہو جو غالب قتل نہ کرے یا ایسا ہو کہ بعض اوقات قتل کرے اور بعض اوقات نہ کرے تو اس میں دیت ہے قصاص نہیں کیونکہ یہ شبہ عمد ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ کسی کو لاثمی سے قتل کیا جائے۔ ۱۴

اور الموسیۃ الفقہیۃ (24/267) میں ہے کہ جادو گرنے اگر اپنے جادو سے کسی کو قتل کیا تو اسکے حکم کے تحت ذکر کیا گیا ہے کہ اور جمصور علماء کا قول ہے۔

جادو سے قتل ممکن ہے یہ قتل عمد ہو اور اس میں قصاص ہے۔ مالکیہ کے ہاں یہ قتل بینہ (دلائل) یا پھر اقرار سے ثابت ہو گا۔

اور شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر جادو گرنے اپنے مقابل کو جادو سے عمدًا قتل کیا تو اس میں قصاص ہے اور اس کا ثبوت جادو گر کا حقیقی یا حکمی اقرار ہو گا۔

مثلاً اس کا یہ کہنا کہ میں نے اسے اپنے جادو سے قتل کیا ہے یا یہ کہے کہ میں نے اسے ایسی قسم سے قتل کیا ہے اور اس بات کے دو عادل جنہیں اس کا علم ہو اور وہ اس سے توبہ کر جچے ہوں شہادت دیں کہ جادو کی قسم عام طور پر قتل کر دیتی ہے تو اگر اس قسم سے غالب قتل نہ ہوتا ہو تو شبہ عمد ہو گا۔

واللہ اعلم۔